



(uten bilder)

- III nivå 5
- arabisk / ny norsk
- Maaozia Haj Mabrouk
- Benjamin Mitchell
- Rukia Nantale



Simbegwire

جیل جیسا

Barnebøker for Norge



barnebokerno.no

جیل جیسا / Simbegwire

barnebokerno.no


Skrevet av: Rukia Nantale

Illustrert av: Benjamin Mitchell

Overratt av: Maaozia Haj Mabrouk (ar), Espen

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreforsmidt av Barnebøker for Norge (barnebokerno.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dele verkene under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Internasjonal lisens.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>



توفيت أم سمبقواير، فحزنت البنت حزناً شديداً. فعل أبوها كل ما في وسعه للعناية بها، فبدأ رويداً رويداً يسترجعان معاً شعورهما بالفرح رغم غياب الأم. كانوا يجلسان كل صباح ويتناقشان فيما سيفعلانه خلال اليوم. وفي المساء، كانوا يحضران العشاء معاً ويغسلان الأطباق ثم يقوم أب سمبقواير بمساعدتها في القيام بفروضها المنزلية.


...



Då Simbegwire si mor døydde, vart ho veldig lei seg.
Simbegwire sin far gjorde sitt beste for å ta hand om
dotter si. Litt etter litt vart dei lukkelege igjen, utan
Simbegwire si mor. Kvar morgen sat dei og snakka om
dagen som låg føre dei. Kvar kveld laga dei middag
saman. Etter at dei hadde teke oppvasken, hjelpte
Simbegwire sin far henne med leksene.

Ein dag kom Simbegwiré sin far heim seinare enn
 vanleg. „Kor er du, jentta mi?“ ropte han. Simbegwiré
 sprang til far sin. Ho stoppa opp då ho såg at han heldt
 ei dame i handa. „Eg vil at du skal møta ei spesiel
 kvinne, jentta mi. Dette er Anita“, sa han og smilte.

...

: „لَمْ يُلْفِيَنِي ... يَتَّقَدِّمُ عَلَيَّ مَنْ يُلْفِيَنِي !
 ذَيْرَانْهُ“ : لَمْ يُلْفِيَنِي يَأْتِيَنِي وَلَمْ يُلْفِيَنِي يَأْتِيَنِي
 يَأْتِيَنِي لَمْ يُلْفِيَنِي يَأْتِيَنِي وَلَمْ يُلْفِيَنِي يَأْتِيَنِي .“ ذَيْرَانْهُ
 يَأْتِيَنِي لَمْ يُلْفِيَنِي يَأْتِيَنِي وَلَمْ يُلْفِيَنِي يَأْتِيَنِي .“ ذَيْرَانْهُ





قالت أنيتا: "أهلا سمبقواير. لقد حدثني أبوك عنك كثيراً، غير أنها لم تبتسم ولم تمسك بيدي سمبقواير. وكان أب سمبقواير فرحاً متحمساً، يتحدث عن حياتهم الثلاثة معاً وكيف أنها ستكون رائعة وسعيدة. ثم أضاف: "صغيرتي، أرجو أن تقبلني أنيتا كأم لك".

...

"Hei Simbegwire, far din har fortalt meg mykje om deg", sa Anita. Men ho smilte ikkje og tok ikkje handa til jenta. Simbegwire sin far var glad og begeistra. Han snakka om at dei tre skulle bu saman, og kor godt dei skulle få det. "Jenta mi, eg håpar du vil akseptera Anita som mor di", sa han.

ومن الغد، دعت أنيتا سمبقواير وعمتها وأبناء عمتها إلى وجبة غذاء بمنزلها. كانت مأدبةً رائعةً، إذ أن أنيتا أعدت كل الأطباق التي تحبها سمبقواير. أكل الجميع حِد التخمة وإنغماس الأطفال في اللعب بينما انصرف الكبار يتجادلُون أطراف الحديث. شعرت سمبقواير بالفرح وبالشجاعة وقررت أن تعود قريباً جداً للعيش مع أبيها وزوجها أبيها في منزل العائلة


...

Neste veke bad Anita Simbegwire, saman med fetrane, kusinene og tanta, heim til seg på eit måltid. For ein fest! Anita laga alle yndlingsrettane til Simbegwire, og alle åt til dei vart gode og mette. Deretter leikte borna medan dei vaksne snakka. Simbegwire følte seg glad og modig. Ho bestemte at snart, veldig snart, skulle ho flytta heim og bu med far sin og stemor si.

Simbegwire sin far merka at dottar hans var ulykkeleg.
 hennar hadde gjeve henne. Det verka ikje som
 Den einaste trygsta ho hadde var eit fargerikt teppe mor
 leksene om kvelden. Ho gjekk rett til senget etter middag.
 henne så mykje husarbeid at ho vart for sittent til å gjera
 tid til å sitja saman med far sin om morgonen. Anita gav
 livet til Simbegwire forandra seg. Ho hadde ikje lengre
 med Anita. Ho rakk handa til Simbegwire. „Eg er veldig

...


اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ
 اَنْ تَرَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنُّوا يَعْمَلُونَ
 اَنْ تَرَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنُّوا يَعْمَلُونَ
 اَنْ تَرَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنُّوا يَعْمَلُونَ





Far hennar vitja henne kvar dag. Etter kvart kom han
 rundt henne.
 hands. Då gjekk ho bort til Anita og la langsamt armane
 igjen?“ Simbegwire såg på far sin og den bekymra mina
 lei meg, vesla, eg tok feil”, gret ho. „Vil du la meg prøva
 med Anita. Ho rakk handa til Simbegwire. „Eg er veldig

...

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ
 اَنْ تَرَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنُّوا يَعْمَلُونَ
 اَنْ تَرَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنُّوا يَعْمَلُونَ
 اَنْ تَرَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كُنُّوا يَعْمَلُونَ





وبعد بضعة أشهر أعلم الأب زوجته وابنته أنه سيتعد لبعض الوقت. قال لهما:
”سأسافر للقيام ببعض الأعمال. لكنني على ثقة من أنكم ستدعوني ببعضكم.“
تغير وجه سمبقواير لكن أباها لم يلحظ ذلك. أنيتا أيضا لم تكن سعيدة بهذا
الخبر لكنها لم تنبس بكلمة.

...

Etter nokre månader fortalte Simbegwire sin far dei at han skulle vera borte eit bel. ”Eg må reisa på grunn av jobben min”, sa han. Men eg veit at de kjem til ta vare på kvarandre.” Simbegwire såg trist ut, men faren la ikkje merke til det. Anita sa ikkje noko. Ho var ikkje glad ho heller.


كانت سمبقواير تلعب مع أبناء عمتها عندما رأت أباها مقبلاً من بعيد. أصابها ذعر شديد من أن يكون غاضباً منها فأسرعت بالاختباء داخل المنزل. لكن أباها أسرع إليها قائلاً: ”عزيزتي سمبقواير، لقد وجدت أمّا رائعة لك ... تحبك وتفهمك، أحبك صغيرتي وأنا فخور بك“. اتفق الجميع على أن تظل سمبقواير مع عمتها طالما أرادت ذلك.

...

Simbegwire leikte med fetrane og kusinene sine då ho såg far sin på lang avstand. Ho var redd han skulle verta sint, så ho sprang inn i huset og gøynde seg. Men far hennar gjekk til henne og sa: ”Simbegwire, du har funne den beste mora i verda. Ei som er glad i deg og forstår deg. Eg er stolt av deg og glad i deg.“ Dei vart samde om at Simbegwire skulle verta buande hos tanta si så lenge ho ville.


Ting vart berre vondare for Simbegwirre. Viss ho ikkje gjorde feirdig husarbeidet, eller klagaa, silo Anita hennae. Og under middagen åt Anita det mest av maten, slik at Simbegwirre berre fekk nokre få restar. Kvar natt gret Simbegwirre til ho fall i søvn medan ho klemede rundt teppet frå mor si.



• • •



Då Simbegwiré sin far kom heim, såg han at rommet
hennar var tomt. „Kva har skjedd, Anita?“ spurde han
bekymra. Kvinnan svara at Simbegwiré hadde stukke av.
„Eg ville at ho skulle respektera meg“, sa ho. „Men
kanskje eg var for streng.“ Simbegwiré sin far forlet
huset og gjekk i retning av bekkene. Han heldt fram til
landsbyen til syster si for å finna ut om ho hadde sett
Simbegwiré.

•





وفي إحدى الأيام استيقظت سمبقواير متأخرة فصرخت أنيتا بوجهها: "أنت ... أيتها البنت الكسولة" ودفعتها بقوة خارج السرير فعلق الغطاء الثمين بمسمار وتمزق إلى نصفين.

...

Ein morgen brukte Simbegwire lang tid på å stå opp. "Din lathans!" ropte Anita. Ho drog Simbegwire ut av senga. Teppet ho var så glad i sat fast på ein spikar og rakna.

أخذت العمة الصغيرة معها إلى منزلها وقدمت لها طعاما ساخنا ووضعتها في سرير لتنام وغطاء أمها معها. ليلتها بكت سمبقواير قبل أن تنام لكنها كانت دموع فرح وسعادة، إذ أنها أدركت بأن عمتها سوف تعتني بها.


...

Tanta til Simbegwire tok med seg barnet til sitt eige hus. Ho gav Simbegwire varm mat, og la henne til å sova med teppet til mor si. Den natta gret Simbegwire idet ho sovna. Men det var fordi ho var så letta. Ho visste at tanta hennar ville ta seg av henne.

Simbegwiré var veldig opprørt. Ho bestemte seg for å rømma. Ho tok bittane frå tøppet til mora, pakka litt mat og drog av garder. Ho følgde den same veggen som far hennar hadde teke.

• • •


॥ଭ୍ରାତା ୬ହେଲୁ କି ॥ ଅଶେ ୬ହେଲୁ ॥ ଜୀବିତ ଦୟା ॥ ଅଗ୍ରତି ॥ କିମ୍ବା ଆଶା ହିନ୍ଦା
ଦୟାକୁ ପାଞ୍ଚକୁ । କିମ୍ବା ଦୟାକୁ । ୬ହେଲୁ ॥ ଅଶେ ୬ହେଲୁ ॥ ଜୀବିତ ଦୟା ॥





1

Denne kvinnen sag opp i trepet. Da ho sagt jenten og bittane
av det fargerike teppet, ropte ho: "Simbegwire, dottrea
til broren min!" Dei andre kvinnene stoppa å vaske og
hjelpte Simbegwire med å klatra ned frå trepet. Tant
heinner gav den vesle jenten ein klem og prøvde å trygsta
henne.

ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖିବା ଯାଇଲେ





عندما أقبل المساء، تسلقت الفتاة شجرةً باسقةً على ضفة نهر وجعلت لنفسها سريراً بين أغصانها وبدأت تغني وهي تستعد للنوم: "ما، ما، ماما، ماما، لقد تركتني ... تركتني ولن تعودي أبداً. أبي لم يعد يحبني. ماما متى ستعودين؟"
...

Då kvelden kom, klatra ho opp i eit høgt tre ved einbekk og reidde seg ei seng i grøinene. Då ho gjekk og la seg, song ho: "Mamma, mamma, mamma, du forlét meg. Du forlét meg og kom aldri tilbake. Pappa er ikkje glad i meg lenger. Mamma, når kjem du tilbake? Du forlét meg."

ومن الغد غنت سمبقواير نفس الأغنية من جديد عندما كان بعض النسوة يغسلن الثياب بماء النهر. ولما سمعن الأغنية الحزينة تصلّهُنَّ من أعلى الشجرة، ظنن أنها لا تعود أن تكون وشوهة الريح في أوراق الشجرة وواصلن عملهن متوجهات ما سمعن. لكن إحداهن استمعت إلى الأغنية بانتباه شديد.

...

Neste morgen song Simbegwire songen igjen. Då kvinnene kom for å vaska kleda sine i bekken, hørerde dei den triste songen frå høgt oppe i treet. Dei trudde det berre var vinden som rasla med blada og heldt fram med arbeidet sitt. Men éin av kvinnene hørde veldig nøye på songen.